

فتویٰ

باسمہ تعالیٰ

بینک مکرمہ اسلامی بینکاری، اسٹیٹ بینک کے شعبہ اسلامک بینکنگ اور بینک مکرمہ کے شریعہ بورڈ کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کی پابندی ہے۔ بینک مکرمہ اسلامی بینکاری میں تمام تجارتی خدمات اور سہولیات (Product & Services) کی فراہمی اسلامی طریقوں کے مطابق کی جاتی ہے جو کہ شریعت کے مقرر کردہ اصول و ضوابط پر مبنی ہے۔ بینک مکرمہ اسلامی بینکاری میں رقم جمع کروانے (Deposit) اور سرمایہ کاری (Financing) کی مندرجہ ذیل خدمات اور سہولیات (Product & Services) متعارف کروائی گئی ہیں۔

بینک مکرمہ اسلامی بینکاری میں رقم کی وصولیابی کے لیے درج ذیل دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں:

۱۔ رواں کھاتہ (Current Account)

بینک مکرمہ اسلامک بینکاری کے اس کھاتے (Account) میں جمع کروائی جانے والی رقم قرض کی بنیاد پر وصول کی جاتی ہیں، یہ کھاتے دار کسی قسم کے نفع اور نقصان میں شریک نہیں ہوتے اور جب کھاتے دار اپنی رقم واپس طلب کرتے ہیں تو بینک انہیں وہ پوری رقم بلا کسی اضافے اور نقصان کے ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے۔

۲۔ بچت/میعادی کھاتہ (Savings Account / Term Deposit)

اس کھاتے (Account) میں جمع کروائی جانے والی رقم معروف اسلامی طریقہ سرمایہ کاری (مضاربہ) کے تحت وصول کی جاتی ہیں۔ جس کے مطابق کھاتے دار کی حیثیت (رب المال) یعنی (سرمائے کے مالک) کی اور بینک کی حیثیت (مضارب) یعنی (سرمائے سے کاروبار کرنے والے) کی ہوتی ہے۔ ان کھاتوں میں جمع شدہ رقم کو آگے نفع بخش کاروبار میں لگایا جاتا ہے جس سے حاصل شدہ نفع بینک اور کھاتہ داروں میں مضاربہ کے شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے۔ البتہ نقصان کی صورت میں کھاتے دار سرمائے کا نقصان برداشت کرتا ہے جبکہ بینک اپنی عزت کے صلے سے محروم ہو جاتا ہے۔

بچت کھاتہ کی ایک مشخص مدت کے لیے ہوتا ہے جسے میعادی کھاتہ کہتے ہیں۔ جس میں جمع کروائی جانے والی رقم اور منافع کی تقسیم بھی اوپر بیان کردہ طریقہ سرمایہ کاری (مضاربہ) کے تحت انجام دی جاتی ہیں۔

۳۔ سرمایہ کاری (Financing)

جو رقم درج بالا طرق سے وصول کی جاتی ہیں ان سے آگے سرمایہ کاری کر کے نفع کمانے کے لیے مختلف طریقہ متول (Modes of Financing) اختیار کیے جاتے ہیں جن میں شراکت داری (مضاربہ، مشارکہ)، کرایہ داری (اجارہ) اور خرید و فروخت کے معاملات جیسے مراءبہ، سلم، بیع مؤجل وغیرہ اور دیگر اسلامی طریقہ متول شامل ہیں۔ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ بینک مکرمہ اسلامی بینکاری کی خدمات اور سہولیات اسلامی مالیاتی اصول کی بنیاد پر وضع کی گئی ہیں اور ان میں شریعت کے اصول و قوانین کے خلاف کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا ان سے استفادہ کرنا شرعاً جائز ہے۔

ذاکر نور احمد شاہتاز

شریعی بورڈ ممبر

اسلامک بینکنگ - بینک مکرمہ لمیٹڈ

مفتی سید زبیر حسین

ریٹیلینٹ شریعی بورڈ ممبر

اسلامک بینکنگ - بینک مکرمہ لمیٹڈ

مفتی ارشد احمد اعجاز

شریعی بورڈ ممبر

اسلامک بینکنگ - بینک مکرمہ لمیٹڈ

مفتی بلال احمد قاضی

شریعی بورڈ ممبر

اسلامک بینکنگ - بینک مکرمہ لمیٹڈ

مفتی محمد نجیب خان

چئیرمین شریعی بورڈ

اسلامک بینکنگ - بینک مکرمہ لمیٹڈ

مورخ: یکم اکتوبر ۲۰۲۱



BML
ISLAMIC BANKING
اسلامک بینکنگ

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.